THE NIZAM GAZETTE DAILY

نظام گزٹ

جلد (۲) ۳۰ جون ۱۹۶۶ء ۱۰ ربیع الاول روز پنجشنبہ قیمت (۲۱) پیسے شمارہ (۱۵۲)

شمالی ویٹ نام کے دارالحکومت ہنوی پر امریکی طیاروں کی شدید بمباری

پچاس مربع میل کا علاقہ شعلوں کی لپیٹ میں صلاح و مشورہ کیلئے ہوچی منہ ماسکو روانہ

بمباری کی مذمت وزیر اعظم برطانیہ کا اعلان چین کے جنگ میں شامل ہوجانیکا خدشہ



تعلیم کو عام کرنے کیلئے ۲۰ سال تک مسلسل جدوجہد کی ضرورت

ڈگری کورس کو تین سال کئے جانے کی تجویز اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافہ

سارے تعلیمی نظام کی تنظیم جدید ناگزیر۔ تعلیمی کمیشن کی سفارشات

عام انتخابات میں کمیونسٹ پارٹی

مسٹر سنہا کا دورۂ آسام

جو این لائی ایوب بات چیت

تعلیم یافتہ خواتین قیمتوں میں اضافہ کے انسداد میں حکومت کی مدد کریں

فیملی پلاننگ کو مقبول بنانے کی ضرورت۔ وزیراعظم شریمتی اندرا گاندھی کی تقریر

بمبئی میں وزیر اعظم اور ٹپاک خیر مقدم

شاہراہوں پر عوام کا ہجوم

شمالی ویٹ نام کے خلاف امریکہ کی جارحانہ کارروائی

کشمیر کے تذکرہ کو مشترکہ اعلامیہ میں شامل کرنے میں پاکستان ناکام

کمیونسٹ پارٹی

۳

روزنامہ

نظام گزٹ

حیدرآباد دکن

۱۰ ربیع الاول ... [illegible]

میسور کے ہنگامے

میسور کی ریاست دوسری کئی ریاستوں کے مقابلہ میں ہمیشہ امن اور پرسکون حالات کے لیے مشہور رہی ہے لیکن [illegible] سے اس ریاست میں بھی احتجاج اور ہنگاموں کی [illegible] نے اب انتہائی تشویشناک صورت حال اختیار کر لی ہے [illegible] سوال ہو یا ریاستی حدود میں رد و بدل [illegible] میسور میں ایجی ٹیشن نے ناگوار شکل اختیار کر لی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میسور میں اس احتجاجی [illegible]

[illegible]

پولیس والوں پر حملہ

(۳۵) افراد کی گرفتاری

[illegible]

ہند - پاک نمایندوں کے اجلاس

متعلق کوئی تاریخ متعین نہیں ہوئی

[illegible]

روس اور چین میں ثقافتی معاہدہ

[illegible]

ایک بدنام ڈاکو ہلاک

[illegible]

روپیہ کی قدر میں کمی کے بعد اشیائی قیمتوں میں برابر اضافہ ہو رہا ہے

دہلی میں متضاد خبریں - بازاروں میں سرکاری نرخ کی خلاف ورزی

نئی دہلی - ۲۹ - جون - [illegible]

ایک صندوق کے اندر ۱۳ سالہ لڑکے کی لاش برآمد

[illegible]

ڈاکوؤں کا ایک بس پر حملہ

ایک ہلاک - کئی زخمی

[illegible]

[illegible]

واگاٹلنے نے اپنی فراری کی کوشش میں ۶ وارڈنوں کو زخمی کر دیا

[illegible]

لکھنؤ میں زبردست بارش

[illegible]

تعطیلات کے سابق کلرک کو قید اور جرمانہ کی سزا

[illegible]

مختلف امور میں ہندوستان امریکی تعلقات پر سخت تنقید
کمیونسٹ لیڈر پی سندریا کی مذمت گورنر کے خطبہ پر مباحثہ کا جواب



اعلان نتیجہ



حیدرآباد امروز

چیف منسٹر اپنی کابینہ میں دو اراکین کا اضافہ کرینگے

[illegible]

زیارت آثار مبارک

[illegible]

اشیاء احتیاج کی قیمتوں میں اضافہ

قانون ساز کونسل میں بیان

[illegible]

قانون سرکاری زبان میں

الفاظ حذف کرنے کا مطالبہ

[illegible]

تحریک مراعات شکنی منظور

اسپیکر کے فیصلہ کا اعلان

[illegible]

سرکاری وقف بورڈ

[illegible]

اردو ریڈیو

[illegible]

عرس شریف

[illegible]

بلدیہ حیدرآباد کے عام انتخابات کی تمام تیاریاں مکمل

[illegible]

تقریب شادی

[illegible]

ہندی امتحانات کے ہال ٹکٹس

[illegible]

وقف بورڈ میں شکایات کا صندوق

[illegible]

شہر ادب کا ماہانہ مشاعرہ

[illegible]

گورنمنٹ ہائی اسکول کے طلباء

ذریعہ تعلیم کا تیقن، طلباء کا انکار

[illegible]

مدارس میں ہفتہ واری تعطیل

موجودہ طریقہ کار کو برقرار رکھنے کی اپیل

[illegible]

زنانی یوم رحمۃ للعالمین

خواتین سے شرکت کی اپیل

[illegible]

جشن میلاد مبارک

[illegible]

یوم رحمۃ للعالمین کا جلسہ

پروگرام کا اعلان

[illegible]

بزم خواتین کا یوم رحمۃ للعالمین

[illegible]

مدارس کو جمعہ کی تعطیل سے

قومی اتحاد سے نقصان پہنچے گا

[illegible]

دو مسلسل زلزلے

[illegible]

THE NIZAM GAZETTE DAILY

روزنامہ

نظام گزٹ

جلد (۵۱)

راشن کی مقدار میں دو کیلو کی بجائے اپونے دو کیلو کی شرائی مرکزی

راشن کی قلت کی وجہ عارضی ہے - (۲۰) ہزار ٹن غلہ کی بچت کا

قانون راشننگ کے فیصلہ پر عمل کرنے ریاستوں کو ہدایت تقاریب میں مقدار دیا اختیار

سابق وزیر دفاع مسٹر کرشنا مینن کانگریس سے مستعفی ہو گئے

پردیش کانگریس کے نام ۳ تحریری اطلاع

دو لاکھ ٹن گیہوں کی فوری امداد

ہندوستان کو روس کا پیشکش



مدھیہ پردیش جنا کانگریس کے ممبروں کو (۶) سال کے لئے کانگریس

سے خارج کر دیا گیا ہے - مجلس عاملہ مدھیا پردیش کانگریس کا بیان

اکالی لیڈر سنت فتح سنگھ اپنا برت ترک کر دیا

وزیر اعظم شریمتی اندرا گاندھی کی اپیل

اتر پردیش کے ممتاز کانگریسیوں

کا پارٹی سے استعفیٰ